

0225

SET -

Total No. of Questions - 33

Regd.  
No.

Total No. of Printed Pages - 4

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Part - III

## CHEMISTRY, Paper - II

(Urdu Version)

## MODEL QUESTION PAPER

(For the Academic Year 2021-22 Only)

Time : 3 Hours

Max. Marks : 60

$10 \times 2 = 20$

### حصہ - الف

نوت : (i) کوئی 10 سوالات کے جوابات دیے جائیں۔

(ii) ہر صحیح جواب کے لیے 2 نشانات مقرر ہیں۔

(iii) تمام سوالات بہت مختصر ترین جوابی ہیں۔

1. مکعی قریب بستگی (cubic close-pack) ساخت میں جو ہروں کا ہم ربطی عدد کیا ہوگا؟

2. رُخ مرکزی مکعی جالی (face-centered cubic lattice) کے اکائی خانہ میں کتنے جالی نقاط ہوتے ہیں۔

3. شانکی نقص (Schottky defect) کیا ہے؟

4. سلمنی کسر (Mole fraction) کی تعریف کیجیے۔

5. ہنریزی کے کلیہ (Henry's law) کو بیان کیجیے۔

6. ولوجی دباؤ (Osmotic pressure) کی تعریف کیجیے۔

7. مرطوب ہوا سیلکا جیل (Silica gel) کی موجودگی میں خشک ہو جاتی ہے سبب بتائیے۔

8.  $H_2$  اور  $SO_2$  میں کوئی گیس چارکول کی سطح پر جذب کا عمل ظاہر کرنے کی وجہ بیان کیجیے۔

9. ناٹرودجن کا سالمہ بہت زیادہ قائم پذیر ہوتا ہے۔ وجہ بیان کیجیے۔

Turn Over

- .10.  $\text{CIF}_3$  کی ساخت کی تشریح کیجیے۔
- .11. ایمی ڈنیٹ (Ambidentate) لیکنڈ کیا ہے مثال دیجیے۔
- .12. Zwitter روائی کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔
- .13. ریشمہ دار پروٹین کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔
- .14. اتھناں (Ethanol)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  پر 443K سے تعامل کر کے اتحان (Ethane) بناتا ہے جب کہ 413K پر یہ Ethoxyethane میکانیٹ کو واضح کیجیے۔
- .15. ایک نامیاتی مرکب جس کا سالی ضابطہ  $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$  ہے کے Decarboxylation سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نامیاتی ترشہ کی شناخت کیجیے؟

$$6 \times 4 = 24$$

### حصہ - ب

- نوٹ : (i) کوئی چھ سوالات کے جوابات دیے جائیں۔  
(ii) ہر صحیح جواب کے لیے 4 نشانات مقرر ہیں۔  
(iii) تمام سوالات مختصر جوابی ہیں۔
- .16. برآگ کی مساوات اخذ کیجیے۔

.17. برق پاشیدہ کیا ہے؟ فیر اڑے کا پہلا کلیہ برق پاشیدگی بیان کیجیے۔

.18. ذیل میں دی گئیں اصطلاحات کے بار میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟

(a) انجداب (Adsorption) (b) اتصاق یا یونڈ (Absorption)

Adsorbate اور Adsorbent (c)

- .19. محلل پسند اور محلل گریز سم کیا ہوتے ہیں؟ قیام پذیری اور متعاكس حالت کی بنیاد پر ان کا موازنہ کیجیے۔  
.20. مندرجہ ذیل سے  $\text{P}_4$  کس طرح تعامل کرتی ہے۔

$\text{SO}_2\text{Cl}_2$  (b)       $\text{SOCl}_2$  (a)

.21. آپ  $\text{HCl}$  سے  $\text{Cl}_2$  اور  $\text{Cl}_2$  سے  $\text{HCl}$  کس طرح تیار کریں گے؟ تعاملات لکھئے۔

.22.  $\text{XeF}_4$  (b) کی ساختوں کی وضاحت کیجیے۔       $\text{XeF}_2$  (a)

23. عبوری عناصر کے امتیازی خصوصیات لکھیے۔
24. ہم ربطی مرکبات کے ورز نظریہ کو مناسب مثالوں سے سمجھائیے۔
25. IUPAC کی شرائط کو مدد نظر رکھ کر حسب ذیل کے ضابطے لکھیے۔
- (i) ٹری ہائینڈ رو آکسوز گنیٹ (ii) سلفیٹ  
(ii) گہزا اماً عین کوبالت (iii) سلفیٹ  
(iii) پوتاشیم ٹری اکلوو پلاؤیٹ (iv) اور  
(iv) کاربوبہائینڈ ریٹ کی اہمیت لکھیے۔
26. مندرجہ ذیل کی وضاحت مثال کے ساتھ کیجیے:
- (i) ریکر-ٹائی مین تعمال  
(ii) ولیم سن ایچر تالیف
27. حسب ذیل تبدیلیوں کو آپ کس طرح انجام دیں گے؟
- (i) ایتھین سے برومیٹھین میں تبدیلی (Ethane to bromomethene)  
(ii) ٹالوئین سے بنزائیل الکوحل میں تبدیلی (Toluene to benzyl alcohol)
28. مرکبات کے مندرجہ ذیل جوڑوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیمیائی ٹیکنیک لکھیے۔
- (i) میتهائیل امین اور ڈائی میتهائیل امین  
(ii) انیلین اور N-میتهائیل انیلین  
(iii) امینائیل امین اور انیلین
29. نوٹ :
- (i) کوئی دو سوالات کے جوابات دیے جائیں۔  
(ii) ہر صحیح جواب کے لیے 8 نشانات مقرر ہیں۔  
(iii) تمام سوالات طویل جوابی ہیں۔
30. (a) پانی میں گلوكوز کے محلول کی نشان دہی (10% w/w) کی گئی ہے۔ محلول کی سلمیت (Molarity) کیا ہوگی؟  
(b) بخاری دباؤ میں اضافی پستی کیا ہے؟ کسی محل کے سلمی کمیت کے تعین میں یہ کیسے مفید ہے؟

- .31 (a) پہلے درجے کے تعامل کی تتمیٰ شرح مساوات (Integrated rate equation) کو اخذ کیجیے۔  
 (b) مناسب خاکے کے ذریعہ کسی تعامل کی حرکیات پر پڑنے والے تماسی عامل (Catalyst) کے اثرات پر بحث کیجیے۔

.32 آئینہ سے اوزون کو س طرح تیار کیا جاتا ہے؟ ذیل سے  $O_3$  کے تعاملات کی وضاحت کیجئے۔

- PbS (d)                    Hg (c)                    KI (b)                     $C_2H_4$  (a)  
 مندرجہ ذیل کو بیان کیجیے۔

- i) ایٹا نیل گروپ اندازی  
 (ii) کینزارو تعامل (Cannizaro reaction)  
 (iii) کراس الڈول کنٹیف (Cross aldol condensation)  
 (iv) ڈی کاربوا کیلیشن (Decarboxylation)
-